

EN Start Here

FR Démarrez ici


PT Começar por aqui

LV Sāciet šeit

LT Pradėkite čia



© 2018 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX



Contents may vary by location.

Le contenu peut varier en fonction du pays où vous vous trouvez.


O conteúdo pode variar dependendo da localização.

Saturs var būt atšķirīgs atkarībā no valsts.

Pakuotės turinys gali skirtis priklausomai nuo regiono.

Do not connect a USB cable unless instructed to do so.
Ne connectez pas de câble USB sauf si cela vous est demandé.
Não ligue um cabo USB salvo indicado em contrário.
USB kabeli pievienojiet tikai tad, ja to paredz norādes.
Jei nenurodyta instrukcijose, neįjunkite USB laido.

1



Remove all protective materials.
Retirez tous les emballages de protection.
Remova todos os materiais de proteção.
Noņemiet visus aizsargmateriālus.
Nuimkite visas apsaugines medžiagas.

2

Insert the stacker.
Insérez l'empileur.
Insira o tabuleiro.
Ievietojiet kārtotāju.
Įkiškite dėtuve.

3

Place the stacker.
Placez l'empileur.
Coloque o tabuleiro.
Novietojiet kārtotāju.
Padėkite dėtuve.

4

Connect and plug in.
Connexion et branchement.
Conectar e ligar.
Pievienojiet un pieslēdziet elektrībai.
Prijunkite laidus ir įjunkite į maitinimą.

5

Turn on.
Mise sous tension.
Ligar.
Ieslēdziet.
Įjunkite.

6

Select a language and time.
Sélectionnez une langue et une heure.
Selecione o idioma e a hora.
Atlasiet valodu un laiku.
Pasirinkite kalbą ir laiką.

7

Open.
Ouverture.
Abrir.
Atveriet.
Atidarykite.


8

Shake the ink cartridge horizontally for 5 seconds, moving it back and forth about 10 cm 15 times.
Secouez la cartouche à l'horizontale pendant 5 secondes, en faisant des mouvements d'avant en arrière d'environ 10 cm 15 fois.


Agite o tinteiro na horizontal durante 5 segundos, fazendo movimentos de ida e volta com cerca de 10 cm 15 vezes.
Horizontali kratiet tintes kasetni 5 sekundes, pārvietojot to turp un atpakaļ aptuveni 10 cm 15 reizes.
5 sekundes horizontaliai pakratykite rašalo kasetę, 15 kartų judindami ją pirmyn ir atgal maždaug 10 cm.

For the initial setup, make sure you use the ink cartridges that came with this printer. These cartridges cannot be saved for later use. The initial ink cartridges will be partly used to charge the print head. These cartridges may print fewer pages compared to subsequent ink cartridges.
 Pour la configuration initiale, veillez à utiliser les cartouches d'encre fournies avec cette imprimante. Ces cartouches ne peuvent pas être conservées pour une utilisation ultérieure. Les cartouches d'encre initiales seront partiellement utilisées pour charger la tête d'impression. Ces cartouches peuvent imprimer moins de pages que les cartouches suivantes.
 Para a configuração inicial, certifique-se de que utiliza os tinteiros fornecidos com esta impressora. Estes tinteiros não podem ser guardados para posterior utilização. Uma parte dos tinteiros iniciais será utilizada para carregar a cabeça de impressão. Estes tinteiros poderão imprimir menos páginas em relação aos tinteiros adquiridos posteriormente.
 Uzstādot pirmo reizi, izmantojiet printera komplektā iekļautās tintes kasetnes. Šīs kasetnes nevar saglabāt vēlākai lietošanai. Sākotnējās tintes kasetnes daļēji tiks izmantotas drukas galviņas uzpildei. Iespējams, ar šīm kasetnēm varēs apdrukāt mazāku lapu skaitu, nekā ar turpmāk izmantotajām.
 Pradinei parengčiai būtina naudokite su šiuo spausdintuvu pateiktas rašalo kasetes. Šių kasečių negalima saugoti vėlesniam naudojimui. Pradinės rašalo kasetės bus iš dalies sunaudotos pripildant spausdinimo galvutę. Šios kasetės gali atspausdinti mažiau puslapių, palyginti su vėliau naudojamomis rašalo kasetėmis.

Do not touch the sections shown in the illustration of the cartridge.
Ne touchez pas les sections présentées sur l'illustration de la cartouche.
Não toque nas secções mostradas na ilustração do tinteiro.
Nepieskarieties attēlā norādītajām kasetnes daļām.
Nelieskite vietų, parodytų kasetės paveikslėlyje.



Insert all four cartridges. Press each one until it clicks.
Insérez les quatre cartouches. Appuyez dessus jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.
Insira os quatro tinteiros. Pressione cada um deles até encaixar.
Ievietojiet visas četras kasetnes. Uzspiediet uz katras no tām, līdz atskan klikšķis.
Įdėkite visas keturias kasetes. Spauskite kiekvieną, kol spragtelės.



Wait until the charging is finished.
Patientez jusqu'à la fin du chargement.
Aguarde que o carregamento termine.
Pagaidiet kamēr uzpilde ir beigusies.
Palaukite, kol užpildymas bus baigtas.

11

Pull out.
Retrait.
Puxe.
Izvelciet.
Ištraukite.

12

Pinch and slide the edge guides.
Pincez et faites glisser les guides de bords.
Aperte e enfile os guias de extremidades.
Satveriet un bidiet malas vadotnes.
Suimkite ir stumkite kraštelių kreipiamąsias.



13

Load A4 size paper toward the back of the paper cassette with the printable side face down then slide the front edge guide to the paper.
Chargez du papier de taille A4 vers l'arrière du bac à papier, surface imprimable tournée vers le bas, puis faites glisser le guide de bord avant vers le papier.

Coloque papel A4 no sentido da parte posterior do alimentador de papel com o lado a imprimir voltado para baixo e ajuste o guia da extremidade frontal ao papel.

Papīra kasetes aizmugurējā daļā ievietojiet A4 izmēra papīru ar apdrukājamo pusi uz leju, pēc tam malas vadotni bidiet līdz papīram.

Dēkite A4 formato popieriaus link popieriaus kasetės galo spausdinama puse žemyn, tada priekinę kraštelių kreipiamąją stumkite iki popieriaus.



Check the paper size and paper type for the paper sources. Select **Done** if the settings are correct, or select the correct paper size and paper type. You can change these settings later.

Vérifiez le format et le type de papier pour les sources de papier. Sélectionnez **Fini** si les réglages sont corrects ou sélectionnez le bon format et le bon type de papier. Vous pourrez modifier ces réglages ultérieurement.

Verifique o tamanho e o tipo de papel para as origens do papel. Selecione **Concluído** se as definições estiverem correctas ou selecione o tamanho e o tipo de papel correctos. Pode alterar estas definições mais tarde.

Pārbaudiet papīra izmēru un papīra veidu papīra avotiem. Atlasiet **Gatavs**, ja iestatījumi ir pareizi, vai atlasiet pareizo papīra izmēru un papīra veidu. Šos iestatījumus vēlāk varat mainīt.

Patikrinkite popieriaus šaltinių popieriaus dydį ir popieriaus tipą. Palieskite **Atlikta**, jei parametrai yra tinkami, arba pasirinkite tinkamą popieriaus dydį ir popieriaus tipą. Vėliau šias nuostatas galėsite pakeisti.

Windows



Insert the CD and then select A. If you need to connect multiple computers as an administrator, select B and see the *Administrator's Guide* to set up the administrator's settings.

Insérez le CD puis sélectionnez A. Si vous devez connecter plusieurs ordinateurs en tant qu'administrateur, sélectionnez B et consultez le *Guide de l'administrateur* pour configurer les paramètres de l'administrateur.

Insira o CD e selecione A. Caso necessite de ligar vários computadores como administrador, selecione B e consulte o *Guia do Administrador* para configurar as definições de administrador.

Ievietojiet CD un pēc tam atlasiet A. Ja vēlaties izveidot savienojumu ar vairākiem datoriem kā administrators, atlasiet B un skatiet dokumentu *Administrators rokasgrāmata*, lai iestatītu administratora iestatījumus.

Įdėkite CD ir pasirinkite A. Jei turite prijungti kelis kompiuterius kaip administratorius, pasirinkite B ir žr. *Administratoriaus vadovą*, kur rasite informacijos apie administratoriaus nuostatų nustatymus.

If the Firewall alert appears, allow access for Epson applications.

Si l'avertissement du pare-feu s'affiche, autorisez l'accès à toutes les applications d'Epson.

Caso seja apresentada a mensagem de alerta da Firewall, permita o acesso para aplicações Epson.

Ja parādās ugunsdzēsības brīdinājums, atļaujiet piekļūt „Epson” lietojumprogrammām.

Jej parodomas upoznenia na spěšimasa, sutekikite prieigę Epson programoms.

No CD/DVD drive

Mac OS



Visit the website to start the setup process, install software, and configure network settings.


Visitez le site Web pour démarrer le processus de configuration, installer le logiciel et configurer les paramètres réseau.

Visite o Web site para iniciar o processo de configuração, instalar o software e configurar as definições de rede.

Lai sāktu iestatīšanu, instalētu programmatūru un konfigurētu tīkla iestatījumus, apmeklējiet tīmekļa vietni.

Norēdami pradėti sąranką, įdiegti programinę įrangą ir sukonfigūruoti tinklo nustatymus, apsilankykite žiniatinklio svetainėje.

iOS/Android



See the *User's Guide* for more information on printing from a smartphone or tablet.

Consultez le *Guide d'utilisation* pour obtenir plus d'informations sur l'impression depuis un smartphone ou une tablette.

Consulte o *Guia do Utilizador* para obter mais informações sobre a impressão a partir de um smartphone ou tablet.

Skatiet dokumentā *Lietotāja rokasgrāmata* papildinformāciju par drukāšanu no viedtālruna vai planšētdatora.

Daugiau informacijos apie spausdinimą iš išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio ieškokite *Vartotojo vadove*.

Epson Connect



➔ <https://www.epsonconnect.com/>

Using your mobile device, you can print from any location worldwide to your Epson Connect compatible printer. Visit the website for more information.

Avec votre appareil mobile, vous pouvez imprimer depuis n'importe où dans le monde sur votre imprimante compatible Epson Connect. Visitez le site Web pour plus d'informations.

Através do seu dispositivo móvel, pode imprimir a partir de qualquer local no mundo diretamente na sua impressora Epson Connect compatível. Visite o Web site para mais informações.

Ar mobilo ierici un printeri, kas atbalsta „Epson Connect” pakalpojumu, drukāt iespējams, atrodoties jebkurā vietā pasaulē. Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet tīmekļa vietni.

Naudodamiesi mobiliuoju telefonu, galite spausdinti iš bet kurios pasaulio vietos savo „Epson Connect” funkciją palaikančiu spausdintuvu. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite žiniatinklio svetainėje.

Questions?



You can open the PDF manuals from the shortcut icon, or download the latest versions from the following website. See the *User's Guide* to install the PS/PCL driver.

Vous pouvez ouvrir les manuels PDF depuis l'icône de raccourci, ou télécharger les dernières versions depuis le site Web suivant. Voir le *Guide d'utilisation* pour installer le pilote PS/PCL.

Pode abrir os manuais em PDF a partir do ícone de atalho ou transferir as versões mais recentes a partir do seguinte Web site. Consulte o *Guia do Utilizador* para instalar o controlador PS/PCL.

Varat atvērt PDF rokasgrāmatas, atlasot īsinājumiķonu, vai lejupielādēt jaunākās versijas no tālāk norādītās tīmekļa vietnes. Lai instalētu PS/PCL draiveri, skatiet *Lietotāja rokasgrāmata*.

Vadovus PDF formatu galima atidaryti spustelėjus sparčiojo paleidimo piktogramą arba atsisiuntus naujausias versijas iš toliau nurodytos interneto svetainės.

Žr. *Vartotojo vadovas*, kur paaiškinta kaip įdiegti PS / PCL tvarkyklę.

➔ <http://www.epson.eu/Support> (Europe)
 ➔ <http://support.epson.net> (outside Europe)

Windows® is a registered trademark of the Microsoft Corporation.
 Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 Android™ is a trademark of Google Inc.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

для пользователей из России Срок службы: 3 года

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır.

Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketiciler hakem heyetlerine yapabilir.

Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION

Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan



Tel: 81-266-52-3131

Web: <http://www.epson.com/>

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.



ET Alusta siit **SW** Anza Hapa
AR ابدأ من هنا **FA** از اینجا شروع کنید




Sisu võib piirkonniti erineda.

قد تختلف المحتويات باختلاف المنطقة.

Maudhui yanaweza kutofautiana na eneo.

ممکن است محتویات برحسب مکان فرق کنند.

Ärge ühendage USB-kaablit enne, kui olete saanud sellekohase juhise.
لا تصل كبل USB إلا إذا طلب منك إجراء ذلك.
Usiunganishe kwenye kebo ya USB isipokuwa uelekezwe kufanya hivyo.
كابل USB را تا زمانی که از شما خواسته نشده است متصل نکنید.




Eemaldage kõik kaitsematerjalid.

قم بإزالة جميع المواد الواقية.

Ondoa nyenzo zote za ulinzi.

همه مواد محافظ را بردارید.




Paigaldage vrnasti.

أدخل مكس الورق.

Ingiza kitita karatasi.

استکر را وارد کنید.




Asetage vrnasti kohale.

ضع مكس الورق.

Weka kitita karatasi.

یک استکر قرار دهید.




Ühendage ja lülitage vooluvõrku.

قم بتوصيل الطابعة بالتيار الكهربائي.

Unganisha na uhomeke.

وصل كرده و به پریز بزنید.




Lülitage sisse.

قم بالتشغيل.

Washa.

روشن کنید.




Valige keel ja kellaeg.

اختر اللغة والوقت.

Chagua lugha na saa.

زبان و ساعت را انتخاب کنید.




Avage.

افتح.

Fungua.

باز کنید.



Raputage tindikassetti 5 sekundit horisontaalasendis, liigutades seda 15 korda umbes 10 cm võrra edasi-tagasi.

رُج خرطوشة الحبر بشكل أفقي لمدة 5 ثوانٍ، وذلك بتحركها للخلف وللأمام مسافة 10 سم في 15 مرة.

Tikisa kibweta cha wino kiulalo kwa sekunde 5, kisogeze nyuma na mbele karibu sm 10 mara 15.

کارتريج جوهر را به صورت افقی به مدت 5 ثانيه تکان دهید، آن را 15 بار به فاصله تقریبی 10 سانتی متر عقب و جلو بريد.


Algseks häälestuseks kasutage kindlasti tindikassette, mis olid printeriga kaasas. Neid kassette ei saa hoida alles hilisemaks kasutamiseks. Algseid tindikassette kasutatakse osaliselt prindipea laadimiseks. Nende kassettidega võib saada printida vähem lehti kui järgmiste tindikassettidega.

بالنسبة إلى الإعداد الأولي، تأكد من أنك تستخدم خرطيش الحبر المرفقة بهذه الطابعة. لا يمكن الاحتفاظ بهذه الخرطيش لاستخدامها لاحقًا. سيتم استخدام خرطيش الحبر الأولي جزئيًا لشحن رأس الطابعة. قد تطبع هذه الخرطيش صفحات أقل عددًا من تلك التي تطبعها خرطيش الحبر التي ستستخدمها لاحقًا.

Kwa usanidi wa kwanza, hakikisha unatumia vibweta vya wino ambavyo vilikuja na kichapishi hiki. Vibweta hivi haviwezi kuhifadhiwa ili kutumika baadaye. Vibweta vya kwanza vya wino vitatumika nusu ili kuongezea wino kichwa cha kichapishi. Vibweta hivi vinaweza kuchapisha karatasi chache ikilinganishwa na vibweta vya baadaye vya wino.

برای راه اندازی اولیه، حتماً از کارتريج های جوهر ارائه شده به همراه این چاپگر استفاده کنید. این کارتريج ها را نمی توانيد جهت استفاده در آینده نگهداری کنید. مقداری از محتوای کارتريج های جوهر اولیه برای شارژ هد چاپ مورد استفاده قرار می گیرند. در نتیجه ممکن است این کارتريج ها در مقایسه با کارتريج های آتی، تعداد صفحه های کمتری را چاپ کنند.

Ärge puudutage kasseti joonisel näidatud osasid.
لا تلمس الأجزاء المبيّنة في الرسم التوضيحي لخرطوشة الحبر.
Usiguse sehemu zilizoonyeshwa katika picha ya kibweta.
به بخش هایی از کارتريج که در تصوير نشان داده شده اند دست نزنيد.



Sisestage kõik neli kassetti. Vajutage igat üksust, kuni kostab klõps.

أدخل كل خرطيش الحبر الأربعة، اضغط على كل وحدة حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

Ingiza vibweta vyote vinne. Bonyeza kila moja hadi viingie mahali pake.

هر چهار کارتريج را نصب کنید، هر کدام را تا جایی فشار دهید که صدای کلیک شنیده شود.




Oodake veidi, kuni tindiga täitmine on lõppenud.

انتظر حتى ينتهي الشحن.

Subiri hadi imalize kuchaji.

منتظر بمانید تا شارژ تمام شود.




Tõmmake välja.

اسحب.

Ondoa.

بیرون بکشید.



Pigistage ja lükake piirjuhikuid.

اضغط على موجهات الحافة وحركها.


Chuna na utelezeshe mwongozo wa pambizo.

راهنماهای لبه را فشار دهید و بلغزانید.





Laadige A4-formaadis paber paberikasseti tagaosa suunas, nii et prinditav pool oleks all, ja lükake eesmine piirjuhik vastu paberit.

قم بتحميل ورق بحجم A4 نحو الجزء الخلفي لدرج الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة مواجهًا لأسفل ثم حرك موجه الحافة الأمامية نحو الورق.



Pakia ukurasa wa ukubwa wa A4 kuelekea nyuma ya mkanda wa karatasi upande wa kuchapishwa ukiangalia chini kisha utelezeshe mwongozo wa pambizo wa mbele kwenye karatasi.

كاغذ سائز A4 را به سمت پشت كاست كاغذ در دستگاہ بگذارید در حالی که سمت قابل چاپ آن به سمت پایین باشد، سپس راهنمای لبه جویی را روی كاغذ بگذارید.



Valige paberilikkate paberi formaat ja paberi tüüp. Kui paberi formaat on õige, valige **Valmis** või valige vastav paberi formaat ja paberi tüüp. Neid sätteid saab hiljem muuta.

تحقق من حجم الورق ونوعه لمصدر الورق. حدد "متم" إذا كانت الإعدادات صحيحة، أو حدد حجم الورق ونوعه الصحيحين. يمكنك تغيير هذه الإعدادات لاحقًا.

Angalia ukubwa wa karatasi na aina ya karatasi kwa vyanzo vya karatasi. Chagua **Imefanyika** kama mipangilio ni sahihi, au chagua ukubwa na aina sahihi ya karatasi. Unaweza kubadilisha mipangilio hii badaye.

اندازه كاغذ و نوع آن را برای منابع كاغذ بررسی کنید. اگر تنظیمات صحیح هستند روی انجام شد انتخاب، یا اندازه و نوع كاغذ صحیح را انتخاب کنید. می توانید بعداً این تنظیمات را تغییر دهید.



Windows



Sisestage CD-plaat ja seejärel valige A. Kui teil on vaja ühendada mitu arvutit administraatorina, valige B ja vaadake juhendist *Administraatori juhendist*, kuidas alghäältestada administraatori sätteid.

أدخل القرص المضغوط، ثم حدد A. إذا اضطرت الحاجة لتوصيل عدة أجهزة كمبيوتر كمسؤول، فحدد B وراجع دليل المسؤول لضبط إعدادات المسؤول.

Ingiza CD na kisha uchagua A. Ikiwa unahitaji kuunganshiha kompyuta kadhaa kama msimamizi, chagua B na uangalie *Mwongozo wa Msimamizi* ili uweke mipangilio ya msimamizi.

CD را وارد کنید و سپس A را انتخاب کنید. اگر لازم است چند کامپیوتر را به عنوان سرپرست وصل کنید، B را انتخاب کنید و برای انجام تنظیمات سرپرست به راهنمای سرپرست مراجعه کنید.

Tulemüüri hoiatuste ilmutumisel lubage juurdepääs Epsoni rakendustele.

إذا ظهر تنبيه جدار الحماية، فاسمح لتطبيقات Epson بالوصول.

Iwapo tahadhari ya Ngame huonekana, ruhusu ufikiaji kwa programu za Epson.

اگر اخطار دیوار آتش نمایان شد، به برنامه‌های Epson اجازه دسترسی بدهید.

No CD/DVD drive
Mac OS


Seadistusprotsessi alustamiseks, tarkvara installimiseks ja võrguseadistuste konfigureerimiseks minge veebisaidile.

قم بزيارة موقع الويب لبدء عملية الإعداد وتثبيت البرنامج وتكوين إعدادات الشبكة.

Tembelea tovuti ili kuanza mchakato wa usanidi, sakinisha programu na usanidi mipangilio ya mtandao.

برای شروع فرایند راه‌اندازی، نصب نرم‌افزار و پیکربندی تنظیمات شبکه، از وب سایت بازدید نمایید.

iOS/Android



Vaadake juhendist *Kasutusjuhendist* lisateavet, kuidas printida nutitelefonist või tahvelarvutist.

يرجى الاطلاع على دليل المستخدم للحصول على مزيد من المعلومات حول الطباعة من هاتف ذكي أو جهاز كمبيوتر لوجي.

Angalia *Mwongozo wa Mtumiaji* kwa maelezo zaidi kuhusu kuchapisha kutoka kwenye simumahiri au kijilaptopu.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره چاپ از تلفن هوشمند یا تبلت به راهنمای کاربر مراجعه کنید.

Epson Connect



➔ <https://www.epsonconnect.com/>

Oma mobiilseadet kasutades saate printida kõikjalt maailmast oma Epson Connectiga sobiva printeriga. Lisateabe saamiseks minge veebilehele.

باستخدام جهازك المحمول، يمكنك الطباعة من أي موقع في العالم إلى طابعة Epson Connect المتوافقة. قم بزيارة موقع الويب للحصول على مزيد من المعلومات.

Kutumia kifaa chako cha mkononi, unaweza kuchapisha kutoka katika mahali popote ulimwenguni kwenye kichapishaji patanifu cha Epson Connect. Tembelea tovuti kwa maelezo zaidi.

با استفاده از تلفن همراه خود می‌توانید از هر مکانی در سراسر دنیا با چاپگر سازگار با Epson Connect خود اقدام به چاپ کردن نمایید. برای اطلاعات بیشتر از وب سایت بازدید کنید.

Questions?



PDF-formaadis juhendeid saate avada otsetee ikooniga või laadige viimased versioonid alla järgmiselt veebisaidilt. Vt *Kasutusjuhendist*, kuidas installida PS/PCL-draiverit.

يمكنك فتح أدلة الاستخدام بتنسيق PDF من رمز الاختصار أو تنزيل أحدث إصدارات من موقع الويب التالي. انظر دليل المستخدم لتثبيت برنامج التشغيل PS/PCL.

Unaweza kufungua mwongozo wa PDF kutoka kwenye ikoni ya njiamkato, au upakue matoleo mapya kutoka kwenye tovuti inayofuata. Angalia *Mwongozo wa Mtumiaji* ili usakinishe kiendeshi cha PS/PCL.

می‌توانید دفترچه راهنمای PDF را از طریق نماد میانبر باز کنید یا جدیدترین نسخه را از وب سایت زیر دانلود کنید. برای نصب درایور PS/PCL به دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.

➔ <http://www.epson.eu/Support> (Europe)
➔ <http://support.epson.net> (outside Europe)

Windows® is a registered trademark of the Microsoft Corporation.
Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Android™ is a trademark of Google Inc.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSPGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

для пользователей из России Срок службы: 3 года

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır.

Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapılabilir.

Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION

Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

Tel: 81-266-52-3131

Web: <http://www.epson.com/>

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

